

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 62-66

هَاتُوا	النُّصَارَى	صَالِحًا	أَجْرُهُمْ	يَحْزَنُونَ	أَخَذْنَا
ہود	ن ص ر	ص ل ح	ا ج ر	ح ز ن	ا خ ذ
یہودی	نصرانی	اتھے	اجران کے	وہ غمگین ہوں گے	ہم نے لیا
مِيثَاقِكُمْ	رَفَعْنَا	فَوْقَكُمْ	الطُّورَ	اتَّبَيْنَاكُمْ	بِقُوَّةٍ
وٹاق	ر ف ع	ف و ق	ط و ر	ا ت ي	ق و ي
تم سے عہد	بلند کیا ہم نے	تم پر	کوہ طور	ہم نے تمہیں دیا	ساتھ قوت کے
ادْكُرُوا	تَتَّقُونَ	تَوَلَّيْتُمْ	رَحْمَتَهُ	الْخَاسِرِينَ	اغْتَدُوا
ذکر	و ق ي	و ل ي	ر ح م	خ س ر	ع د و
یاد رکھو	متقی بن جاؤ	تم پھر گئے	اس کا رحم	تم تباہ ہو جاتے	زیادتی کی
السَّبَبِ	قِرْدَةً	خَاسِرِينَ	نَكَالًا	يَذِيهَا	خَلْفَهَا
س ب ت	ق ر د	خ س ا	ن ك ل	ي د ي	خ ل ف
ہفتے کے دن	بندر	ذلیل و خوار	عبرت	ان کے آگے	ان سے پچھلوں
		مَوْعِظَةً	لِلْمُنْفِقِينَ		
		و ع ظ	و ق ي		
		نصیحت	پرہیز گاروں کے لیے		